

# Psa

## Chapter 33

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1  
خوشی سے گاؤں اے - راستبازو - یہوواہ میں - سیدھوں کے لیے - زیبا ہے - ناؤہ - تہلہ: حمد  
H8416 H5000 H3477 H3068 H6662

کریں۔ ستائش کی اُس والے چلنے پر راہ سیدھی کہ ہے مناسب کیونکہ مناؤ! خوشی کی رب بازو، راست اے

2  
شکر کرو - یہوواہ کا - بریط سے - بریط سے - دس - تارا والے - حمد کرو - اُسے: لؤ:  
H2167 H6218 H3068 H3068 H3034

بجاؤ۔ ساز والا تاروں دس میں تمجید کی اُس کرو۔ ثنا و حمد کی رب کر بجا سرود

3  
گاؤں - اُسے - گیت - نیا - اچھی - طرح سے - بجاؤ - خوشی کی - آواز سے - بتروئے:  
H8643 H5059 H3190 H2319 H7891

لگاؤ۔ نعرے کے خوشی کر بجا ساز سے مہارت گاؤں، گیت نیا میں تمجید کی اُس

4  
کیونکہ - سیدھا ہے - کلام - یہوواہ کا - اور - سب - اُس کا - کام - وفاداری - میں - باموئے:  
H0530 H4639 H3605 H3068 H1697 H3477

ہے۔ کرتا سے وفاداری کام پر وہ اور ہے، سچا کلام کا رب کیونکہ

5  
وہ - محبت - کرتا ہے - راستبازی سے - اور - عدالت سے - رحمت - یہوواہ کی - بھری ہے - ملاء - ہاڑم:  
H0776 H4390 H3068 H4941 H6666 H0157

ہے۔ بوئی بھری سے شفقت کی رب دنیا ہیں، پیارے انصاف اور بازی راست اُسے

6  
- کلام سے - یہوواہ کے - آسمان - بنائے گئے - اور - روح سے - اُس کے - منہ - سب - اُن کے - لشکر - باموئے:  
H3605 H6310 H7307 H8064 H3068 H1697

آیا۔ میں وجود لشکر پورا کا ستاروں سے دم کے منہ کے اُس ہوا، خلق آسمان پر کہنے کے رب

7  
جمع - کرنے - والا - ڈھیر - کی - طرح - پانیوں - کو - سمندر - کے - رکھنے - والا - خزانوں - میں - گہرائیوں - کے - تہوئے:  
H8415 H0214 H5414 H3220 H4325 H5067 H3664

ہے۔ رکھتا محفوظ میں گوداموں کو گہرائیوں کی پانی کرتا، جمع ڈھیر بڑا کا پانی کے سمندر وہ

8  
ڈرے - یہوواہ سے - سب - زمین - اُس سے - خوف - کھائیں - سب - بسنے - والے - جہان - کے - تہلہ:  
H8398 H3427 H3605 H0776 H3605 H3068 H3372

کھائیں۔ دہشت سے اُس باشندے تمام کے زمین مانے، خوف کا رب دنیا کل

9  
کیونکہ - اُسے - نے - کہا - اور - ہو - گیا - اُسے - نے - حکم - دیا - اور - قائم - ہو - گیا - وئےمور:  
H5975 H6680 H1931 H1961 H0559 H1931

ہوا۔ قائم وقت اسی تو دیا حکم نے اُس آیا، میں وجود فوراً تو فرمایا نے اُس کیونکہ۔

10	יְהוָה	הַפִּיר	עֲצַת-	גִּזְיִם	הִנְיָא	מִחֲשָׁבוֹת	עֲמִיּוֹם:
	یہوواہ	باطل-کرتا-ہے	مشورے-کو	قوموں-کے	ناکام-کرتا-ہے	منصوبوں-کو	لوگوں-کے
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6331</a>	<a href="#">H6098</a>		<a href="#">H5106</a>	<a href="#">H4284</a>	

ہے۔ دیتا شکست کو ارادوں کے اُمتوں وہ دیتا، ہونے ناکام منصوبہ کا اقوام رب

11	עֲצַת	יְהוָה	לְעוֹלָם	תִּצְמָד	מִחֲשָׁבוֹת	לְבָב	לְדָר	וְדָר:
	مشورہ	یہوواہ-کا	-ہمیشہ-تک	قائم-رہتا-ہے	منصوبے	اُس-کے-دل-کے	نسل-در	نسل
	<a href="#">H6098</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H4284</a>		<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H1755</a>

ہیں۔ رہتے قائم پشت در پشت ارادے کے دل کے اُس رہتا، کامیاب تک ہمیشہ منصوبہ کا رب لیکن

12	אַשְׁרֵי	הַגֹּי	אַשְׁרֵי-	יְהוָה	אַלְהֵינוּ	וְהַעֲלֵם	בְּחָר	לְנַחֲלָה	לֹא:
	مبارک	-قوم	جس-کا	یہوواہ	اُس-کا-خدا-ہے	قوم-جسے	اُس-نے-چُنا	میراث-کے-لیے	اپنے-لیے
	<a href="#">H0835</a>			<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H0977</a>	<a href="#">H5159</a>	

ہے۔ لیا بنا میراث اپنی کر چن نے اُس جسے قوم وہ ہے، رب خدا کا جس قوم وہ ہے مبارک

13	מְשֻׁמִּים	הַבֵּיט	יְהוָה	רָאָה	אַתָּה	כָּל-	בְּנֵי	הָאָדָם:
	-آسمان-سے	دیکھتا-ہے	یہوواہ	دیکھا	-کو	سب	بنی-آدم	آدمیوں-کے
	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H5027</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H0120</a>

ہے۔ کرتا ملاحظہ کا انسانوں تمام کر ڈال نظر سے آسمان رب

14	מְמֻכּוֹן-	שְׁבָתוֹ	הַשְּׁנִיחַ	אֵל	כָּל-	יִשְׂרָאֵל	הָאָרֶץ:
	-مقام-سے	اپنے-تخت-کے	وہ-دیکھتا-ہے	-کی-طرف	سب	بسنے-والوں-کے	زمین-پر
	<a href="#">H4349</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H7688</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H0776</a>

ہے۔ کرتا معائنہ کا باشندوں تمام کے زمین وہ سے تخت اپنے

15	הַיִּצֵּר	יַחַד	לְבָם	הַמְּבִין	אֵל-	כָּל-	מַעֲשֵׂיהֶם:
	بنانے-والا	ایک-ساتھ	اُن-کے-دلوں	سمجھنے-والا	-کی-طرف	سب	اُن-کے-کاموں-کے
	<a href="#">H3335</a>			<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4639</a>

ہے۔ دیتا دھیان پر کاموں تمام کے اُن وہ دیا تشکیل کو دلوں کے سب اُن نے جس

16	אֵין-	הַמֶּלֶךְ	נִשְׁעַ	בְּרֶב-	חֵיל	נְבוֹר	לֹא-	יִנְצֵל	בְּרֶב-	כָּח:
	نہیں	-بادشاہ	بجایا-جاتا-ہے	-بڑے	لشکر-سے	طاقتور	نہیں	بجایا-جاتا-ہے	-بڑی	طاقت-سے
	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H3467</a>	<a href="#">H7230</a>	<a href="#">H2428</a>	<a href="#">H1368</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5337</a>	<a href="#">H7230</a>	

بجاتی۔ نہیں اُسے طاقت بڑی کی سورمے اور چھڑاتی، نہیں اُسے فوج بڑی کی بادشاہ

17	שִׁקָר	הַסּוֹס	לְתִשׁוּעָה	וּבָרָב	חֵיל	לֹא	יִמְלֹט:
	جھوٹا-ہے	گھوڑا	-نجات-کے-لیے	اور-بڑی	اُس-کی-قوت-سے	نہیں	بجاتا-ہے
	<a href="#">H8267</a>		<a href="#">H8668</a>	<a href="#">H7230</a>	<a href="#">H2428</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4422</a>

دیتی۔ نہیں چھٹکارا طاقت بڑی کی اُس گا۔ کھائے دھوکا وہ رکھے اُمید پر اُس جو سکتا۔ کر نہیں مدد بھی گھوڑا

18	הִנֵּה	עֵינַי	יְהוָה	אֵל-	יְרֵאָיו	לְמַיְחָלִים	לְחַסְדּוֹ:
	دیکھو	آنکھ	یہوواہ-کی	-کی-طرف	اُس-سے-ڈرنے-والوں-پر	-اُمید-رکھنے-والوں-پر	اُس-کی-شفقت-کے
	<a href="#">H2009</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3373</a>	<a href="#">H3176</a>	

ہیں، رہتے میں انتظار کے مہربانی کی اُس اور مانتے خوف کا اُس جو بے رہتی لگی پر اُن آنکھ کی رب یقیناً

19	לְחַצֵּיל	מָמוֹת	נַפְשָׁם	וְלַחֲיוֹתָם	בְּרַעֲב:
	-بجانے-کے-لیے	-موت-سے	اُن-کی-جانوں	اور-زندہ-رکھنے-کے-لیے-اُنہیں	-قحط-میں
	<a href="#">H5337</a>	<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H2421</a>	<a href="#">H7458</a>

رکھے۔ محفوظ میں کال اور بچائے سے موت جان کی اُن وہ کہ

20	נִפְשֵׁנוּ	חֲכִמָּה	לִיהוָה	עֲזָרָנוּ	וּמְדַנְנֵנוּ	הוּא:
	ہماری-جان	انتظار-کرتی-ہے	-یہوواہ-کا	ہماری-مدد	اور-ہماری-ڈھال	وہ-ہے
	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H2442</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5828</a>	<a href="#">H4043</a>	<a href="#">H1931</a>

ہے۔ ڈھال ہماری سہارا، ہمارا وہی ہے۔ میں انتظار کے رب جان ہماری

21	כִּי-	בּוֹ	יִשְׁמַח	לִבִּנוּ	כִּי	בְּשֵׁם	קָדְשׁוֹ	בְּטָהֳנוּ:
	کیونکہ	-اُس-میں	خوشی-مناتا-ہے	ہمارا-دل	کیونکہ	-نام-پر	اُس-کے-قدس-کے	ہم-نے-بھروسہ-رکھا
			<a href="#">H8055</a>			<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H0982</a>

ہیں۔ رکھتے بھروسا پر نام مُقَدَّس کے اُس ہم کیونکہ ہے، خوش میں اُس دل ہمارا

22	יְהוָה-	חֲסִדָּתָךְ	יְהוָה	עָלֵינוּ	כְּאִישׁ	יְחַלְדֵנוּ	לָךְ:
	ہو	تیری-شفقت	یہوواہ	-ہم-پر	جیسے	ہم-نے-انتظار-کیا	-تیرا
	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3068</a>			<a href="#">H3176</a>	

ہیں۔ رکھتے اُمید پر تجھ ہم کیونکہ ہے، پر ہم مہربانی تیری رب، اے